



## سوال

(80) زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

زکوٰۃ دینے کی جگہیں یا مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آٹھ بیان کیے ہیں۔

- (1) فقراء (2) مساکین (3) زکوٰۃ لینے والے "عالمین" (4) جن کے دلوں میں اسلام کی الفت (محبت) پیدا کرنی ہو۔ مثلاً نو مسلم (5) غلام یا قیدیوں کی آزادی کے لیے۔
- (6) مقروض پر۔ (7) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں مثلاً جہاد، حج، مدارس اور مسجدوں وغیرہ یعنی وہ کام جو خالص دینی نقطہ نظر یا دین کی حفاظت کے لیے کیے جائیں۔
- (8) اور مسافروں کو مثلاً کوئی آدمی اپنے ملک میں تو غنی (دولت مند) ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں جائے اور اتفاق سے کنگال ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ لیکن وہ زکوٰۃ بنو ہاشم، بنی مطلب، بنی عباس اور آل رسول سادات کو دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔

نوٹ:..... فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن شرعی نصاب سے کم ہو یا اتنا ہو کہ روزانہ نہ کمائے اور کھائے، بچت اس کے پاس نہ ہوتی ہو۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

**فتاویٰ راشدہ**

صفحہ نمبر 411

محدث فتویٰ